

مجموعی جائزہ کنڈرگارٹن خاندانوں کے لیے

نظر ثانی شدہ 3/15/2017

کنڈرگارٹن کی تیاری اہم ہے

زبان اور خواندگی، ریاضی اور سماجی و جذباتی آموزش جیسے شعبوں میں چھوٹے بچے کی آموزش اور تجسس، تخلیقیت اور برقراریت جیسی اہلیتوں کی نشو و نما بچے کو اسکول میں کامیابی کے لیے بہتر طور پر تیار کر سکتی ہے۔ کنڈرگارٹن میں پہنچنے پر طلبہ کی انفرادی خوبیوں، مشکلات اور منتقلیوں کو سمجھنے سے معلمین اور اہل خانہ کو خوبیوں پر مبنی طریقہ اختیار کرنے، بچے پہلے سے جو کچھ جانتے اور کر سکتے ہیں اسے آگے بڑھانے میں سہولت ملتی ہے۔ Kindergarten Individual Development Survey (کنڈرگارٹن کے انفرادی نشو و نما کے سروے (KIDS)) سے اساتذہ کو اپنے بچوں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اس چیز سے ان کی اصلاح میں مدد ملتی ہے۔ کنڈرگارٹن میں ایک ٹھوس تجربہ اسکول کے ذریعے سبھی کچھ سیکھنے اور نمو پانے کے لیے بچے کے لیے ایک بنیاد تیار کرتا ہے۔

KIDS سے اساتذہ، بچوں اور اہل خانہ کو مدد ملتی ہے

KIDS سے اساتذہ کو ان اہلیتوں اور رویوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جس کا مشاہدہ وہ ابھی کنڈرگارٹن کی شروعات کرنے والے بچوں میں کرتے ہیں۔ KIDS کی توجہ ان اہلیتوں اور لیاقتوں پر ہوتی ہے جو بچے کی طویل مدتی کامیابی کے لیے کافی اہم ہوتے ہیں۔ KIDS سے حاصل شدہ معلومات سے اہل خانہ کو اس سلسلے میں مزید جاننے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ کنڈرگارٹن میں ان کا بچہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کی صحت مند ترقی اور نشو و نما میں ان کا تعاون کرتے رہیں۔

KIDS کس طرح کام کرتا ہے:

- 2017 کے موسم خزاں میں شروع کر کے، کنڈرگارٹن کے سبھی اساتذہ اسکول کے پہلے چند ہفتوں میں چاروں آموزشی شعبوں میں 14 پیمانوں پر طلبہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے KIDS ٹول کا استعمال کریں گے۔ ان میں شامل ہیں:
 - آموزش اور خود انضباطی کے طریقے
 - سماجی اور جذباتی نشو و نما
 - زبان اور خواندگی کی نشو و نما
 - ادراک: ریاضی
- مشاہدے اس وقت ہوں گے جب بچے کھیلنے، کام کرنے، قطار بند ہونے کا اور مستقل اسکولی دن کے دوسرے حصوں کا کام کر رہے ہوں گے۔ بچے امکانی طور پر اساتذہ کو مشاہدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے۔
- اساتذہ ہر بچے کی اہلیتوں کو آموزشی راہ پر ڈالنے کے لیے مشاہدوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ معلومات KIDStech نام کے ایک محفوظ، آن لائن سسٹم میں درج کی جائے گی۔
- اساتذہ اور اضلاع سال میں کم از کم ایک بار اس کارروائی سے گزریں گے، لیکن وہ زیادہ مرتبہ بھی یا نشو و نما کے مزید شعبے درج کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

2017 سے قبل، الینوائے کے اسکولی اضلاع کنڈرگارٹن میں بچوں کے داخل ہونے پر وہ جو کچھ کر رہے تھے اسے سمجھنے کے لیے متعدد طریقے استعمال کرتے تھے۔ نتیجتاً، معلمین اور پالیسی سازوں کے سامنے اس امر کی پوری تصویر نہیں آتی تھی کہ الینوائے کے طلبہ تیسرے گریڈ تک کیسی کارکردگی دکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یقینی بنانا مشکل ہو جاتا تھا کہ کنڈرگارٹن میں داخل ہونے سے قبل ہر طالب علم کو مناسب تعاون موصول ہوتا تھا۔

الینوائے میں پہلی بار، 2017-2018 میں شروع کر کے، KIDS سبھی طلبہ کے بیچ کنڈرگارٹن کے لیے آمادگی کی ایک واحد، ریاست گیر تصویر فراہم کرے گا، چاہے ان کا زپ کوڈ جو بھی ہو۔ یہ چیز گریڈ لیولز کے بیچ باہمی تعاون کو فروغ دے گی، جس سے اضلاع کو اہل خانہ اور طلبہ کے لیے پری اسکول اور نگہداشت طفل سے کنڈرگارٹن میں منتقلی کو ہموار بنانے میں مدد ملے گی۔

KIDS سے ماخوذ مشترکہ معلومات ریاستی تعلیمی بورڈ کے پاس جائے گی تاکہ وہ حامیوں اور پالیسی سازوں کو اس بابت مطلع کر سکے کہ انتہائی مؤثر طریقے سے اہل خانہ اور بچوں کی خدمت انجام دینے کے لیے وسائل کو بہترین ڈھنگ سے کس طرح ہم آہنگ کیا جائے۔

مزید معلومات کے لیے

اپنے بچے کے کنڈرگارٹن کے استاد سے بات کریں یا www.isbe.net/KIDS پر موجود وسائل چیک کریں۔